

## FA Part 1 Home Economics Full Book Online Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	میزانہ بنانا کیسا کام ہوتا ہے	A. مشکل B. آسان C. رکاوٹ D. کوئی نہیں
2	اقدار کے معنی ہیں	A. منصوبہ بندی کرنا B. مقاصد کا تعین C. مقدار یا اندازہ کرنے کے D. اقدامات کی تشریح
3	بچہ کس وجہ سے تھکاوٹ محسوس نہیں کرے گا	A. روک ٹوک B. سونے اور کھیلنے کے اوقات کی پابندی C. مسست کھنا D. کوئی نہیں
4	اقدار کا تعلق کس سے ہوتا ہے	A. سوچ سے B. انصرامی عمل سے C. منصوبہ سے D. داخلی تجربیات سے
5	ہوم اکنامکس میں زرائع و وسائل سے مرا دیے	A. ایشیا اور وقت کی توانائی B. روپیہ پیسا C. کھیلوں کے لیے توانائی D. کوئی نہیں
6	وقت کو استعمال کیا جاسکتا ہے	A. عمل کر کے B. مقرر وقت پر C. مناسب اور صحیح انداز میں D. کوئی نہیں
7	بیمار انسان کے چہرے کے اثرات کن آثار کی نشاندہی کرتے ہیں	A. سر میں درد B. کان میں درد C. لگتار کھانسی اور بہتی ناک D. جسم کے اعضاء میں درد
8	انسانی ترقی کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے	A. تھکن B. صلاحیت میں زوال C. ناکامی D. توانائی
9	جسمانی نشوونما میں اضافہ ہوتا ہے	A. قد اور وزن میں B. عمر میں C. جذبات میں D. کوئی نہیں
10	مقاصد کی درجہ بندی کس کی بنیاد پر کی جاتی ہے	A. معاشرتی مقاصد B. حقیقی مقاصد C. تفریحی مقاصد D. طویل المیعاد مقاصد
11	نوجوانوں سے کیا توقع رکھنی چاہیے	A. بچوں کا خیال B. سچ کہنے کی C. ناداروں کی مدد کریں D. ہر ایک سے انصاف کریں
12	تھکاوٹ کے اثرات دور کرنے کے لیے بہترین طریقہ	A. کام کرنا B. تھکن کی وجہ سے جو حالات C. تھکاوٹ کی وجہ کو دیکھا جائے D. توانائی خرچ کرنا
13	چھوت والی بیماریوں سے مراد ایسی بیماری ہے	A. دوسرے سے تیسرے فرد کو لگ جاتی ہے B. ایک فرد سے دوسرے فرد کو لگ جاتی ہے C. جو تیزی سے لگ جاتے D. جو نہیں لگ سکتی
14	ڈیزائن اور آرٹ کے عناصر و اصولوں کو سمجھ کر بنایا جاسکتا ہے	A. گھروں کو آرام اور خوب صورت B. تنگ C. کشادہ D. کوئی نہیں
15	اقدار کو تشبیہ دی جاتی ہے	A. قدر شناسی B. خیالات C. احساسات D. خواہشات

16	جسم کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے کس چیز کا مناسب استعمال کرنا ہوگا	A. آرام کا B. قوت و توانائی کا C. تھکاوٹ کی وجہ سے D. وقت کا
17	کام کرنے سے جو اثرات پیدا ہوتے ہیں، وہ	A. جسمانی تھکاوٹ B. اکتاہٹ میں اضافہ C. کام کرنے کی صلاحیت میں کمی D. کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ
18	کسی بھی چیز کی شکل و ہیئت کس سے تشکیل پاتی ہے	A. سطحی کیفیت سے B. خطوط سے C. شکل سے D. کوئی نہیں
19	ایک فرد اگر مشکلات کو حل نہ کرسکے تو وہ تمام وقت کس سے دو چار رہتا ہے	A. بے چینی B. پریشانی C. اضطرابی کیفیت D. کوئی نہیں
20	بچوں کی بہتر پرورش میں کس کا فرض زیادہ ہے	A. ماں کا B. والدین کا C. استاد کا D. کوئی نہیں